

دوا حاصل كرنا

Å skaffe medisiner

 Espen Stranger-Johannessen

 Sara Rumen Krotev

 Yasir Tayyab

 2

 اردو / norsk

ڈم کو دانت ۛ درد ہے۔ اس کے دانت میں بہت تکلیف ہے۔

...

Tom har tannpine. Han har veldig vondt i en tann.

اسے اپنے دانتوں کے ڈاکٹر سے ملا ہے، لیکن پہلے اسے درد کے
لیے کسی دوا کی ضرورت ہے۔

...

Han må gå til tannlegen, men først trenger
han noe for å dempe smertene.

وہ گڑی پر قریب ترین فرمیسی میں جا رہے۔

...

Han kjører til nærmeste apotek.

“مجھے دانت میں درد ہے،” وہ کہتا ہے۔ “کیا آپ کے پاس اس کے لیے کوئی دوا ہے؟”

...

«Jeg har tannpine», sier han. «Har du noe for det?»

“جی ہں، یہ درد ختم کرنے والی کچھ ادویت ہیں۔ ان کے لیے آپ
کو کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہے۔”

...

«Ja, her er noen smertestillende tabletter. Du
trenger ikke resept for disse.»

”آپ کا شکریہ۔ ان کی قیمت کچھ ہے؟“

...

«Tusen takk. Hvor mye koster de?»

“ان کی قیمت نو یورو ہے۔ لیکن آپ کو دانتوں کے ڈاکٹر سے ملا
چہیے۔”

...

«De koster ni euro. Men du bør gå til
tannlegen.»

“ٹھیک ہے، میں کل صبح اپنے دانتوں کے ڈاکٹر سے رابطہ کروں
گا۔”

...

«OK, jeg skal ringe tannlegen i morgen tidlig.»

“اگر آپ کو بہتر دوا کی ضرورت ہے، تو آپ کو اپنے دانتوں کے
ڈاکٹر سے نسخہ لینے کی ضرورت ہوگی۔”

...

«Hvis du trenger sterkere medisin, må du ha
en resept fra tannlegen eller legen din.»

«آپ ګ شکرېه! خدا حفظ.»

...

«Tusen takk! Ha det.»



LIDA Stories

lidastories.net

دوا حاصل کرنا

Å skaffe medisiner

 Espen Stranger-Johannessen

 Sara Rumen Krotev

 Yasir Tayyab (ur), Espen Stranger-Johannessen (nb)

